

Time: 10 Minutes	Paper Math 6 (T-1)	Total Marks: 10
4th Month, 3rd Week, 5th Day	Exercise 8.3 Q # (5, 6)	

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. Find the total surface area of a solid cube of volume 8000cm^3 . (1x5=5)

ایک ٹھوس مکعب کے سطح کا رقبہ معلوم کریں جس کا حجم 8000 مکعب سینٹی میٹر ہو۔

Q.2. How much water can a cubical water tank contain if it is 6m long, 3m wide and 5m high? (1x5=5)

ایک مکعب نما واٹر ٹینک میں کتنا پانی آسکتا ہے۔ اگر اس کی لمبائی 6 میٹر، چوڑائی 3 میٹر اور اونچائی 5 میٹر ہو؟

Time: 10 Minutes	Paper Math 6 (T-1)	Total Marks: 10
4th Month, 3rd Week, 5th Day	Exercise 8.3 Q # (5, 6)	

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. Find the total surface area of a solid cube of volume 8000cm^3 . (1x5=5)

ایک ٹھوس مکعب کے سطح کا رقبہ معلوم کریں جس کا حجم 8000 مکعب سینٹی میٹر ہو۔

Q.2. How much water can a cubical water tank contain if it is 6m long, 3m wide and 5m high? (1x5=5)

ایک مکعب نما واٹر ٹینک میں کتنا پانی آسکتا ہے۔ اگر اس کی لمبائی 6 میٹر، چوڑائی 3 میٹر اور اونچائی 5 میٹر ہو؟

Time: 10 Minutes	Paper Math 6 (T-1)	Total Marks: 10
4th Month, 3rd Week, 5th Day	Exercise 8.3 Q # (5, 6)	

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. Find the total surface area of a solid cube of volume 8000cm^3 . (1x5=5)

ایک ٹھوس مکعب کے سطح کا رقبہ معلوم کریں جس کا حجم 8000 مکعب سینٹی میٹر ہو۔

Q.2. How much water can a cubical water tank contain if it is 6m long, 3m wide and 5m high? (1x5=5)

ایک مکعب نما واٹر ٹینک میں کتنا پانی آسکتا ہے۔ اگر اس کی لمبائی 6 میٹر، چوڑائی 3 میٹر اور اونچائی 5 میٹر ہو؟

Time: 10 Minutes	Paper Math 6 (T-1)	Total Marks: 10
4th Month, 3rd Week, 5th Day	Exercise 8.3 Q # (5, 6)	

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. Find the total surface area of a solid cube of volume 8000cm^3 . (1x5=5)

ایک ٹھوس مکعب کے سطح کا رقبہ معلوم کریں جس کا حجم 8000 مکعب سینٹی میٹر ہو۔

Q.2. How much water can a cubical water tank contain if it is 6m long, 3m wide and 5m high? (1x5=5)

ایک مکعب نما واٹر ٹینک میں کتنا پانی آسکتا ہے۔ اگر اس کی لمبائی 6 میٹر، چوڑائی 3 میٹر اور اونچائی 5 میٹر ہو؟